

خصوصی پروگراموں/خدمات سے متعلق حقوق

اس نوٹس کا مقصد کمیونٹی کو طالب علم/طالبہ کے مفت، مناسب عوامی تعلیم اور پروگراموں اور خدمات بشمول خصوصی تعلیم کی دستیابی کے بارے میں مطلع کرنا ہے۔ معذور افراد کی تعلیمی بہتری کا قانون (IDEA) اور بحالی ایکٹ کا سیکشن 504 وہ وفاقی قوانین ہیں جو سکول ڈویژن کو معذور طلباء کو خصوصی پروگرام مہیا کرنے کیلئے خاص ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ IDEA اور سیکشن 504 کے تحت، سکول ڈویژن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فعال اور مستقل بنیادوں پر ان بچوں کی شناخت، نشاندہی، اور تشخیص کرے، جو شیرخوار سے 21 سال کی عمر کے ہیں، پرنس ولیم کاؤنٹی میں رہنے والے جن کو خاص تعلیم اور/یا متعلقہ خدمات، یا باقاعدہ تعلیمی خدمات میں مطابقت یا موزونیت کی ضرورت ہے۔ یہ قوانین سکول ڈویژن سے درج ذیل کی مانگ کرتے ہیں:

- وہ سکول جانے کی عمر والے کسی طالب علم/طالبہ کی ممکنہ تشخیص کرے جو سکول ڈویژن میں رہتا/رہتی ہے اور جس کے بارے میں سکول کے سٹاف کے رکن کو شبہ ہے کہ وہ معذور ہے۔
- وہ معذور طلباء کو جامع ماحول میں زیادہ سے زیادہ وسیع مناسب حد تک مناسب تعلیمی اور سکول سے متعلقہ مواقع فراہم کرے۔
- وہ قریبی علاقے کے نجی سکولوں، بچوں کے ماہرین اور صحت کے شعبے کو ان خدمات، ان کی اقسام اور مقامات کی دستیابی سے متعلق نوٹس فراہم کرے۔
- وہ والدین/سرپرست کو معذور طلباء کے حقوق سے سالانہ، طالب علم/طالبہ کی تشخیص اور داخلے سے پہلے، یا ان کے طالب علم/طالبہ کے داخلے میں اہم تبدیلی کی صورت میں آگاہ کرے۔
- معذور طلباء کی شناخت، تشخیص، اور داخلے سے متعلق لیئے گئے اقدامات کے قانونی طریقہ کار کو بنائے اور عملدرآمد کروائے۔
- معذوری کی بنیاد پر طالب علم/طالبہ کی امتیازی سلوک یا ہراسانی کی شکایات کی رپورٹنگ، تحقیق، اور حل کے طریقہ کار فراہم کریں، جن پر سکول ڈویژن نے اپریل 2016 میں نظر ثانی کی اور وہ ضابطہ 738-1 "طالب علم/طالبہ کی امتیازی سلوک یا ہراسانی کے دعوے کی شکایت کا طریقہ کار" میں موجود ہے۔
- وہ سکول ڈویژن کے قانونی طریقہ کار کے تحریری نوٹس کو والدین یا سرپرست کو فراہم کرے۔

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے طفل مکتب میں ایسی معذوری ہے جو آپ کے طالب علم/طالبہ کی نشوونما یا تعلیمی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے، یا ایک ذہنی یا جسمانی معذوری ہے جو کہ کافی حد تک زندگی کی اہم سرگرمی کو محدود کرتی ہے تو براہ مہربانی مزید معلومات کے لیئے 703.791.7287 پر خصوصی تعلیم کے ڈائریکٹر سے رابطہ کیجیئے۔